

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,  
CAMP COURT, ABBOTTABAD.

Service appeal No. 842/2015

Date of institution ... 27.07.2015  
Date of decision .... 21.05.2018

Jabbar Khail son of Kushaly R/O Darbani P/O Darband District Torghar (Ex-Constable No. 111) District Police, Torghar. ... (Appellant)

Versus

1. Deputy Inspector General of Police, Hazara Region, Abbottabad and 2 others. ... (Respondents)

Mr. Muhammad Hamayun,  
Advocate

... For appellant.

Mr. Muhammad Jan,  
Deputy District Attorney

... For respondents.

MR. SUBHAN SHER,  
MR. MUHAMMAD HAMID MUGHAL,

... CHAIRMAN  
... MEMBER.

JUDGMENT

SUBHAN SHER, CHAIRMAN:- The appellant Jabbar Khail preferred the instant service appeal against the order dated 31.3.2015 whereby he was dismissed from service.

2. Briefly stated the facts of the appeal in hand are, that the appellant was appointed as Consable on 06.07.2011 in the District Police of Torghar and thereafter, underwent necessary training. On 12.3.2015 respondent No. 2 i.e. District Police Officer, Torghar issued a charge sheet to the appellant on the allegation of calling a lady namely Mst. Tajo Bibi on mobile which was duly replied by him. On 25.3.2015, respondent No. 2 issued final show cause notice to the appellant which was too replied by him. Ultimately on 31.3.2015, respondent No. 2 issued the impugned order whereby the appellant was dismissed from service, against which the appellant preferred departmental appeal before respondent No. 1 i.e. Deputy Inspector General of Police, Hazara Region,

EW 8.02.15.12

Abbottabad, who summoned the appellant for personal hearing, however, no final order was passed so far, hence the present appeal before this Tribunal.

3. Mr. Muhammad Hamayun Khan, Advocate the learned counsel for the appellant contended that neither any oral or written complaint was lodged by above named lady Mst. Tajo Bibi nor she was examined during the enquiry but respondent No. 2 placed reliance on the statements and allegations made by SHO Police Station, Torghar. He further contended that no proper opportunity was afforded to the appellant to rebut the allegations. At the end, he requested this Tribunal that the punishment awarded to the appellant is harsh and made a request for taking lenient view.

4. Mr. Muhammad Jan, learned Deputy District Attorney strongly opposed the contentions of the appellant and contended that the police is a disciplined force, and the appellant being member of the said force has committed a big blunder by calling the above named lady on mobile phone, so he deserves no leniency or relaxation in the punishment awarded by respondent No. 2. He supported the order of dismissal and requested the Tribunal to dismiss the appeal of the appellant.

5. From perusal of the record it appears that the above named Tajo Bibi and the appellant are close relatives and both are already married as well. The appellant took the stance that they were relatives and did talk with each other but he never blackmailed her nor he had any bad intention. This frank admission by the appellant start from the very beginning till today, clearly suggests his straightforwardness and truthfulness in his stance. This admission of the appellant was further reinforced when the above named Tajo Bibi, her husband, father and brother etc. none of them either lodged any complaint against him with the local police nor associated any departmental proceedings. From this conduct of the above named lady and her relatives, this Tribunal would be justified to draw inference that the matter was not like one which the respondents alleged against the appellant. From the above stated situation, it would manifest that except a simple conversation, it was nothing else.

18/11/51  
S.W.  
21

6. So far the contention of the appellant is concerned, after due consideration and consulting the record, it was found forceful to the extent that being a young constable, the punishment of dismissal was too harsh as it will not only deprive him from his service but he will also be debarred permanently from service in any government department. So request of the appellant of leniency will be considered at the relevant time.

7. So far the contention of the learned Deputy District Attorney is concerned that being employee of a disciplined force, the appellant should not have indulged in such like matters seems to be forceful as besides that, sometimes such incidents culminate in blood feud enmity between the parties. So he would deserve some punishment to realize his blunder and prevent him from repeating such action in future.

8. The crux of the above discussion is that this appeal is partially allowed and the impugned order dated 31.03.2015 is modified to the extent that the major penalty of dismissal from service of the appellant is converted into forfeiture of 3 (three) increments as well as withholding of promotion for 3 (three) years. The intervening period shall be treated as extra-ordinary leave without pay. In the circumstances, parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

*Muhammad Hamid Mughal*

(MUHAMMAD HAMID MUGHAL)  
Member

ANNOUNCED  
21.05.2018

*Subhan Sher*  
(SUBHAN SHER)  
Chairman  
Camp Court, Abbottabad.  
*EW 21.5.2018.*

842/2015


21.05.2018

Appellant Jabbar Khail in person alongwith Mr. Muhammad Hamayun Khan, Advocate present. Mr. Wajid Ali, ASI (Legal) alongwith Muhammad Jan, Deputy District Attorney on behalf of the respondents present. Attested copies of enquiry report and charge sheet etc. submitted by the learned counsel for the appellant which are placed on file. Similarly the above named representative also produced the entire record for perusal.

Arguments heard and file perused.

Vide our detailed judgment of today, this appeal is partially allowed and the impugned order dated 31.03.2015 is modified to the extent that the major penalty of dismissal from service of the appellant is converted into forfeiture of 3 (three) increments as well as withholding of promotion for 3 (three) years. The intervening period shall be treated as extra-ordinary leave without pay. In the circumstances, parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

  
Member


  
Chairman  
Camp court, A/Abad  
8W  
21.5.2018

**ANNOUNCED**  
**21.05.2018**

22.11.2017


Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Bilal, Deputy District Attorney for the respondents present. Learned DDA seeks adjournment as no representative of the department attended today. Last opportunity granted. To come up for arguments on 21.12.2018 before the D.B at camp court, Abbottabad.

  
Member

  
Chairman  
Camp Court, A/Abad.

21.12.2017


Counsel for the appellant present. Mr. Kabir Ullah Khattak, Addl: AG alongwith Mr. Wajid Ali, SI (Legal) for the respondents present. Arguments could not be heard due to incomplete bench. To come up for arguments on 19.03.2018 before D.B at Camp Court, Abbottabad.

  
(Gul Zeb Khan)  
Member (Executive)  
Camp Court, Abbottabad.

19.03.2018

Counsel for the appellant and Mr. Usman Ghani, District Attorney for respondents present. During the arguments it transpired that the department has not annexed the copy of the enquiry report, charge sheet and statement of allegations nor statement of witnesses or the statement of the appellant. The department is directed to produce all the record on the next date. To come up for arguments on 21.05.2018 before D.B at camp court, Abbottabad.

  
Member

  
Chairman  
Camp court, A/Abad

19.08.2016

Appellant with counsel and Mr. Mir Afzal, S.I (Legal) alongwith Mr. Muhammad Siddique Sr.GP for the respondents present. Written reply not submitted by the respondents as they refused to avail the opportunity on payment of cost of Rs. 1000/- as per previous order sheet dated 23.06.2016. The appeal is therefore assigned to D.B for final hearing on 13.2.2017 at camp court, Abbottabad.

  
Chairman

Camp court, A/Abad.

13.02.2017


Appellant with counsel present: Mr. Muhammad Siddique Sr.GP alongwith Abdul Waheed SI (Legal) also present. Due to non-availability of D.B arguments could not be heard. To come up for final hearing on 18.07.2017 before the D.B at camp court. Abbottabad.


  
Member

Camp court, A/Abad

10. 18.07.2017

Appellant with counsel and Mr. Muhammad Bilal, DDA alongwith Mr. Abdul Waheed, S.I (Legal) for respondents present. Representative of the department submitted an application alongwith written reply. Counsel for the appellant has got no objection. Written reply filed. Cost of Rs. 1000/- paid and receipt obtained from counsel for the appellant. Counsel for the appellant requested for adjourned to file rejoinder. Adjourned. To come up for rejoinder and arguments on 22.11.2017 before D.B at Camp Court A/Abad.

  
Member

  
Chairman  
Camp court, A/Abad


21.1.2016

Counsel for the appellant and Mr. Qaisar Khan, H.C alongwith Mr. Muhammad Siddique, Sr.GP for respondents present. Requested for adjournment. To come up for written reply/ comments on 20.4.2016 before S.B at Camp Court A/Abad.

  
Chairman  
Camp Court A/Abad


20.04.2016

Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Siddique Sr.GP for the respondents present. Written reply not submitted. Requested for further time. Last opportunity granted. To come up for written reply/comments on 23.6.2016 before S.B at camp court, A/Abad.

  
Chairman  
Camp court, A/Abad

23.06.2016

Counsel for the appellant and Mr. Mir Afzal, S.I (Legal) alongwith Mr. Muhammad Siddique Sr.GP for the respondents present. Written reply not submitted despite last opportunity. Last opportunity is further extended subject to payment of cost of Rs. 1000/- which shall be paid by the respondents from their own pockets. To come up for written reply/comments and cost on 19.08.2016 before S.B at camp court, Abbottabad.

  
Chairman  
Camp court, A/Abad,

17.08.2015

Counsel for the appellant present. Learned counsel for the appellant argued that the appellant was serving as constable when subjected to enquiry on the allegations of teasing and blackmailing a lady Mst. Tajo Bibi and dismissed from service vide impugned order dated 31.03.2015 against which he preferred departmental appeal on 01.04.2015 which was not respondent and hence the present service appeal on 27.07.2015.

That neither any evidence was adduced against the appellant nor the charges substantiated by anyone including the said lady Mst. Tajo Bibi. That the appellant was not associated with the enquiry which was conducted contrary to facts and law.

Points urged need consideration. Admit. Subject to deposit of security and process fee within 10 days, notices be issued to the respondents for written reply/comments for 20.10.2015 before S.B at camp court A/Abad.

Appellant Deposited  
Security & Process Fee



  
Chairman

Camp Court Abbottabad

20.10.2015

Counsel for the appellant present. Respondents are not in attendance. Notice be repeated to them for written reply/comments for 21.01.2016 before S.B at Camp Court A/Abad.



  
Chairman  
Camp Court A/Abad.



Form- A  
FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No. 842 /2015

S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	27.07.2015	<p>The appeal of Mr. Jabbar Khail presented today by Mr. Hamayun Khan Advocate may be entered in the institution register and put up to the Worthy Chairman for proper order.</p> <p> REGISTRAR</p>
2	28-7-15	<p>This case is entrusted to Touring Bench A.Abad for preliminary hearing to be put up thereon <u>17-8-2015</u></p> <p> CHAIRMAN</p>

**BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL**  
**KHYBPER PAKHTUNKHWA PESHAWAR**

Service Appeal No. 842 /2015

Jabbar Khail S/o Kushaly R/o Darbani P/o Darband District Torghar (Ex constable  
No. 111 District Police Torghar.

...APPELLANT

**VERSUS**

Deputy Inspector General of Police Hazara region Abbottabad and others.

...RESPONDENTS

**SERVICE APPEAL**

**INDEX**

<i>S.#</i>	<i>Description</i>	<i>Page No.</i>	<i>Annexure</i>
1.	Service Appeal	1 to 6.	
2.	copy of reply	7	"A"
3.	Copy of final show cause notice	8	"B"
4.	Copy of reply	9	"C"
5.	Copy of order dated 31/06/2015	10-11	"D"
6.	Copy of departmental appeal	12-15	"E"
7.	Wakalatnama.	16	

...APPELLANT

Through

Dated: 23 - 7 /2015

  
(HAMAYUN KHAN)

Advocates High Court Abbottabad  
Office No. 4, Hayat Sherpao Lawyer  
Plaza, Kutchery Compound, Abbottabad  
Cell No. 0345-9557912

**BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL**  
**KHYBER PAKHTUNKHWA PESHAWAR**

Service Appeal No. 842 /2015

Jabbar Khail S/o Kushaly R/o Darbani P/o Darband District Torghar (Ex constable No. 111 District Police Torghar.

...APPELLANT

VERSUS

S.W.P. Province  
Service Tribunal  
Diary No. 879  
Dated 27-7-2015

1. Deputy Inspector General of Police Hazara region Abbottabad.
2. District Police Officer Torghar.
3. Deputy Superintend of Police Head Quarter District Torghar.

...RESPONDENTS

APPEAL UNDER SECTION 4 OF KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT AS AMENDED UP TO DATE AGAINST IMPUGNED DISMISSAL ORDER NO. 75/2015, NO. 695/PA DATED, TORGHAR 31/03/2015 WHICH IS ILLEGAL, AGAINST THE LAW, FACTS, CIRCUMSTANCES VOID AB-INITIO, MALAFIDE, WITHOUT INQUIRY AND AGAINST THE PRINCIPAL OF NATURAL JUSTICE AND LIABLE TO BE SET-ASIDE.

File No. 842  
27/7/15

=====

PRAYER: ON ACCEPTANCE OF INSTANT APPEAL ORDER NO. 75/2015, NO. 695/PA DATED TORGHAR 31/03/2015 MAY KINDLY BE DECLARED AS NULL AND VOID BY SETTING ASIDE THE SAME THE

APPELLANT BE RE INSTATED ALONG WITH ALL  
BACK BENEFITS.

---

Respectfully Sheweth: -

Brief facts giving rise to the instant appeal are as under:-

1. That the appellant was appointed on 06/07/2011 as constable in District Police, District Torghar.
2. That, thereafter appellant went to Police Training on direction of respondent and THE APPLANT was qualified after completion of 9 month training form Police College Hangu.
3. That, thereafter appellant continuously performed his duties on different station with full devotion and liability in District Torghar on different station and there had no complaint against appellant.
4. That, on 12/03/2015 respondent No. 2 issued charge sheet No. 660/PA against appellant on the basis of so called allegation of mobile contact with a lady namely Mst. Tajo bibi.

5. That, on 18/03/2015 Appellant submitted complete reply of so called charge sheet and denied all self made allegation copy of reply is annexed as Annexure "A".
6. That, on 25/03/2015 respondent No. 2 issued final show cause notice on the basis of previous self made charge sheet. Copy of final show cause notice annexed as annexure "B".
7. That, on 26/03/2015 appellant again submitted reply of the final show cause notice and fully described the situation of incident. Copy of reply annexed as annexure "C".
8. That, on 31/03/2015 respondent No. 2 issued impugned order on the basis of self made so called allegation without inquiry and appellant was dismissed from service. Copy of order dated 31/06/2015 annexed as annexure "D".
9. That, feeling aggrieved appellant proffered the departmental appeal on 02/04/2015 before the respondent No. 1 against the impugned order dated 31/03/2015 passed by respondent No. 2. Copy of departmental appeal annexed as annexure "E".

10. That, respondent No. 1 issued notice to appellant for personal hearing and on 16/07/2015 appellant appeared before respondent No. 1. But respondent No. 1 till date did not pass any order/judgment on the departmental appeal of the appellant and similarly not given any response.
11. That, feeling aggrieved the appellant approach this Honourable tribunal for setting aside impugned order dated 31/03/2015 inter alia on the following grounds.

**GROUND:-**

- a. That impugned order dated 31/03/2015 against the law, facts and principle of natural justice.
- b. That, respondent No. 2 not recorded any statement of Mst. Tajo Bibi in support of allegation and similarly they have not recorded statement of any volunteer and relative witnesses and passed impugned order on hear say propaganda without inquiry hence the impugned order dated 31/03/2015 is liable to be set aside.

- c. That, there is no complaint/application against the appellant in respect of mobile contact with any lady.
- d. That, respondent No. 2 initiated so called proceeding against appellant without any proof and justification. Hence order dated 31/03/2015 is liable to set aside.
- e. That, respondent No. 2 passed impugned order dated 31/03/2015 on the basis of misreading and non reading of evidence available on record.
- f. That, respondent was not provided proper opportunity to appellant for personal hearing and similarly adopted summary procedure and through order 31/03/2015 imposed major penalty of dismissal from service hence impugned order is liable to be set aside and appellant be reinstated along with all past benefits.
- g. That, respondent No. 2 passed impugned order without adopting proper law and procedure which is lead in E&D Rules and all proceeding

was initiated with malafide intention only for black mailing and torturing to appellant hence order dated 31/03/2015 is liable to be set aside.

- h. That, all acts done by respondent against the fundamental right and against principle of natural justice.
- i. That, addresses of the parties have correctly given in the heading of appeal.
- j. That other point would be argue at the time of argument with the kind permission of this Honourable Court.

It is, therefore, respectfully prayed that, on acceptance of this appeal, impugned order No. 75/2015, No. 695/PA dated Torghar 31/03/2015 may kindly set aside and appellant be reinstated in service alongwith all back benefits.

*A. Farid*  
...APPELLANT

Through;

Dated: 23-7 /2015

*H. Farid*  
(HAMAYUN KHAN)

Advocates High Court Abbottabad

**VERIFICATION:-**

*Verified on oath that the contents of forgoing writ petition are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein from this Honourable Court.*

*A. Farid*  
...APPELLANT



الہ آباد سٹیٹ جری 660/PA مورخ 12/3/15ء

جناب D/o صاحب مدد معروضہ خدمت ہونکہ!

مسموعہ تاجوٹی جی مہیری خوری رشتہ دار ہے۔ بیشترہ داری کی بناء پر اکثر اوقات ہمارے گھر والوں سے اس کا رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ مہیرے پاس E.S-Q Mobile جس میں آٹو میٹک ریکارڈنگ ملتی ہوئی تھی اسی وجہ سے ہماری گفتگو ریکارڈ ہوئی تھی۔ مہیرے موبائل نمبر اپنے موبائل میں ڈال کر بلو لٹو لٹو کھیل دیا ہے۔ اس ریکارڈنگ میں بلیک میلنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔

عالیجاہ!

میں شادی شدہ ہوں مہیرے بچے تھیں میں نے نہ اور خون کال میں کسی کو بلیک میل کیا ہے نہ ہی مہیرے خلاف کسی نے کوئی راپورٹ کی ہے علاوہ ازیں اس بات میں بھی کوئی مداخلت نہیں ہے نہ مہیری جان کو خطرہ ہے ہماری آس میں رشتہ داری ہے۔ اگر یہ بات کچھ پر ثابت ہو جائے کہ میں نے کسی کو بلیک میل کیا ہے تو میں فرسٹ کلاس تیار ہوں یہی مہیرا بیان ہے۔

Altaf  
کمال چمار خیل ہا ۱۱۱ متھنہ چوکی سنگھ  
13/15

Attested  
[Signature]

Amraute "B"

OFFICE OF THE DISTRICT POLICE OFFICER, TORGHARNo. 673 /PA dated, Torgar the 25/02/2015.FINAL SHOW CAUSE NOTICE

The final Show Cause Notice would dispose off the Departmental Proceedings conducted against Mr. Jabbar Khail No.111, while posted at Police Post Shagai remained on 23<sup>rd</sup> feb-2015, according to information Constable Mr. Jabbar Khail posted in PP Shagai use to black mail Mst, Tajoo bibi w/o Bakht Rasool r/o kamil akazai PS Darbani via his mobile phone a serious wrath anger is found the family of said women due to his phone /call, whereas according to the customs of the area threat of the murder of the said person is also found.

Departmental enquiry was initiated against you and entrusted to Shoukat Khan DSP/Hqs who conducted the departmental enquiry and stated that constable found defaulter according to which he suggested Major Punishment against you which may be your dismissal from service. In this light of above mentioned circumstances. Hence final show cause is being served to you. Why your service not be finished as due to your ugly act bring bad stigma on the part of local police and created hate in eye of general public for police department as well. If you have any defence you can produce before the undersigned within 05 days otherwise major punishment would be given awarded you that can be dismissed from your service.

Therefore you are directed to submit any defence if you have in this regard if you failed to produce any defence with in stipulated period you would be dismissed from service as suggested by the E/O.

District Police Officer,

Torgar.

Attested  


مقام فاسٹ سٹوڈنٹس یونین 673 فارم ہا - Do

کوثر محترمہ سے اجازت ہوں کہ قریباً اس سال 25-3-15 قبل رمضان المبارک 2014ء

میں میری ماں کے وراثت میں جو زمین تاج پور سے ایک چوتھائی حصہ ہے

کوثر محترمہ سے اجازت ہوں کہ اس زمین پر ایک گھر بنوا دوں۔

اس زمین پر زمین کے مالک نے 5/6 حصہ وراثت میں لیا ہے۔

میں اس زمین پر زمین کے مالک سے اجازت لے کر اس زمین پر گھر بنوا رہا ہوں۔

اس زمین پر زمین کے مالک نے اس زمین پر گھر بنوانے سے اجازت دے دی ہے۔

میں اس زمین پر زمین کے مالک سے اجازت لے کر اس زمین پر گھر بنوا رہا ہوں۔

اس زمین پر زمین کے مالک نے اس زمین پر گھر بنوانے سے اجازت دے دی ہے۔

میں اس زمین پر زمین کے مالک سے اجازت لے کر اس زمین پر گھر بنوا رہا ہوں۔

اس زمین پر زمین کے مالک نے اس زمین پر گھر بنوانے سے اجازت دے دی ہے۔

میں اس زمین پر زمین کے مالک سے اجازت لے کر اس زمین پر گھر بنوا رہا ہوں۔

اس زمین پر زمین کے مالک نے اس زمین پر گھر بنوانے سے اجازت دے دی ہے۔

میں اس زمین پر زمین کے مالک سے اجازت لے کر اس زمین پر گھر بنوا رہا ہوں۔

اس زمین پر زمین کے مالک نے اس زمین پر گھر بنوانے سے اجازت دے دی ہے۔

میں اس زمین پر زمین کے مالک سے اجازت لے کر اس زمین پر گھر بنوا رہا ہوں۔

اس زمین پر زمین کے مالک نے اس زمین پر گھر بنوانے سے اجازت دے دی ہے۔

میں اس زمین پر زمین کے مالک سے اجازت لے کر اس زمین پر گھر بنوا رہا ہوں۔

اس زمین پر زمین کے مالک نے اس زمین پر گھر بنوانے سے اجازت دے دی ہے۔

Attested

*[Signature]*

Amearc "D"

10

# District Police Officer, Torghar

## DISMISSAL ORDER

The order will dispose off the departmental proceedings conducted against Constable Jabar Fihal No.111 (Regular Police) posted at Police Post Shagai on the following grounds:

A Source Report received from W/RPO Hazara vide his office Order No. M73/PA dated 02-09-2015 in which a complaint against defaulter constable was received on which charge sheet/disciplinary action was served upon defaulter constable vide this office Memo: No.600/PA dated 17-03-2015, on which a departmental enquiry was initiated and handed over to DSP Headquarters Jubbah. resultantly all the allegations leveled against defaulter Constable in the source report has been proved and suggested him major punishment i.e. dismissal from service.

Therefore in the light of enquiry officer, I Abdul Saboor Khan District Police Officer, Torghar being competent authority in exercise of power under the MWFP Police efficiency and disciplinary Rules 1975 is hereby awarded him major punishment i.e. dismissal from service.

OR NO 75 12015

No. 695 PA dated, Torghar, the 31/03/2015.

District Police Officer,  
Torghar.

Copies to the :-

1. SRC
2. Dy Officer.

Attest

District Police Officer  
Torghar

1-4-15

Attest

تاریخ  
حوالہ  
نمبر

**DISTRICT POLICE OFFICER TORGHAR****DISMISSAL ORDER**

The order will disposed off departmental proceeding conducted against constable Jabar Khail No. 111 (Regular Police) posted as Police post Shagai on the following grounds

A source report received from W/RPO Hazara vide his office Endst. No. 2473/PA dated 02/03/2015 in which a complaint defaulter constable was received on which charge sheet/disciplinary action was served upon the defaulter constable vide this office Memo No. 600/PA dated 12/03/2015 on which a departmental inquiry was initiated and handed over to DSP Head Quarter Judba resultantly all allegation leveled against defaulter constable in the sources report has been proved and suggested him major punishment dismissal from service therefore in the light of inquiry officer I Abdul Saboor Khan District Police Officer, Torghar being competent authority in exercise of power under NWFP police efficiency and disciplinary rules 1975 is hereby awarded him major punishment dismissal from service

CR No. 75/2015

No. 695/PA dated, Torghar, The 31/03/2015

Sd/-  
**DISTRICT POLICE OFFICER  
TORGHAR**

Copy to:

1. SRC
2. Pay Officer

*Attested*  
*H. Khan*

Annexure "E"

12

Phone No.0992-9310021  
Fax No.0992-9310023

From: The Regional Police Officer,  
Hazara Region, (Abbottabad).

To: The District Police Officer,  
Torghar.

No. 3203 /PA Dated Abbottabad, the 6/4 /2015.


Subject: REPRESENTATION

Memo:

Representation received in this office in respect of Ex-FC Jabar Khel No.111 of your District is sent herewith for parawise comments and returned requested.

Service Roll and Fauji Missel containing Enquiry File of the applicant may be provided to proceed further in the matter.

  
REGIONAL POLICE OFFICER  
Hazara Region Abbottabad

Attested  


حکومت جناب ایچ ڈی صاحب پولیس وزارت برکھن ایسٹ آباد

اپنی بنیاد میں حکومت سرحد جہاں آباد ڈیپو نمبر 75  
مورخہ 31/12/2013، چیف انٹرنیٹ 695/18 مورخہ 23/12/2013  
مجاہد از دفتر جناب ایچ ڈی صاحب تور غریب  
کہ ذریعہ مورخہ 23/12/2013 سے کسی شہوت  
کے علاوہ کسی سے کسی کو دیا۔

استدعا ہے کہ ایسے بڑے منظور فرمائے  
جائے کہ میری سزا کے سلسلے میں جو کاغذ  
فرمائے جائے گا کہ میرے علاوہ کسی پر بحال فرمایا  
جائے۔

جنا جلالہ - مورچہ جات - اپیل عرف ذیل میں -

یہ کہ سائل مورخہ 27/06/2011 کو عدالت ڈیپو میں داخلہ تور غریب منظور  
کیٹیجی بھرتی ہو کر لیبر پاس کرنے پر مقررہ ٹکٹ گورنمنٹ خوش  
اسلوبی اور جانفشانی سے داخلہ تور غریب خدومات  
سرا انجام دے رہا تھا کہ کسی دشمن نے جو مجھ سے  
اور مسما تاجری بی کے خاندان میں دشمن بنانے  
کیلئے جھوٹ اور من گھڑت کہانی گڑھا کر پولیس کے  
تعلق نام کرانے کی کوشش کی ہے۔ اور پولیس  
کو کسی نے غلط اطلاع دیکر پیارے خاندانوں میں  
شہرہ رنجش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور  
مجھے علاوہ کسی سے کسی کو دیا کر خاندانوں  
میں شہرہ رنجش پیدا کر کے ایک دوسرے

Attested  
H  
Kar

کہ خون کا پیمانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ خون  
 میں سے تو تاجروں کی کو کوئی خون کی نہ ہے۔ تاجروں  
 کو خون کرنے کی ضرورت تھی۔ البتہ یہ خون غیر  
 9713156 - 9347 سے میرے فرزند 8297864 - 8343  
 پر کال آنے پر منہ کو رہنے کے لیے پوچھا کہ آپ جہاں  
 ہیں۔ تو میں نے غارت میں جواب دیا۔ اور منہ کو رہنے  
 کے لیے خیر و مہمانیت پوچھی کہ اپنا تعارف بھی کروایا۔  
 کیونکہ مسات تاجروں کی کاروائی اور سیرا والہ آپس میں خالی  
 ہوا کے لیے میز چھوڑنے میں شادی مشورہ ہوتی اور  
 تاجروں کی شادی مشورہ ہے۔ اس لیے میں نے نہ ان کے  
 متعلق کوئی غلط بات سنی اور نہ ہی اس نے میرے  
 کوئی غلط بات کی۔ اور نہ ہی اس کے کسی رشتہ دار  
 نے کوئی رپورٹ کی نہ میرے خاندان کے کسی فرد نے  
 کوئی غلط رپورٹ کی۔ اور نہ ہی میری انکو آٹری کے  
 دوران کسی نے میرے خلاف بیان دیا۔ جو میرے  
 خلاف انکو آٹری شروع ہو جانے پر عوامل پر ایک  
 کی شہادت پر آکر چہرہ عام ہو جانے کی وجہ سے  
 خانہ انور میں بات۔ چرگ میں آنے پر دروازہ  
 کھولنے میں صلح صفائی ہو چکی ہے۔ لیکن یہیں  
 کی میرے خلاف اس کاروائی کی وجہ سے میرے  
 عزیز و اقارب کے دلوں میں رنج پیدا ہو چکا ہے۔  
 اور اس رنج میں کہ وہ سے پوچھنے کے صلح صفائی  
 کر جانے کے بجائے جلی پرتیل والے جانیکا بحال  
 پیمانہ ایسا نہ ضروری طور ذہنوں میں آچکا ہے۔

اللہ  
 K



جو سیرک ڈسٹریکٹ کے چائیر گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لئے اختیار  
 کر لینے کا امکان ہے تاہم یہ ایک خطہ ان کے  
 خیر خواہوں کے لئے ہے جو ان کے خاندان کے خیر خواہ  
 اچھے اور خیر خواہوں پر چلتے ہیں۔ اس کے لئے اس طرح کے خیر خواہوں  
 کے خاندانوں میں سے خیر خواہوں کو کوئی شکایت کہ نہ  
 ہو کہ کسی غلط اقدام کا انہوں نے کوئی پرہیز  
 کیا۔ لیکن یہ وہ خاندانوں کے لئے ہیں جو اس پر  
 ہیں جو سیرک کے خیر خواہوں کی اس کا براہ راست  
 سے حالات سے بگڑنے کے خیر خواہوں سے موجود ہیں۔  
 یہ سیرک کے خیر خواہوں کے لئے ہے جو ان کے خیر خواہوں  
 کے لئے ہیں جو ان کے خیر خواہوں سے آئندہ خیر خواہوں  
 کے لئے اس طرح کے خیر خواہوں کے لئے ہیں جو ان کے  
 خیر خواہوں اور خیر خواہوں کے لئے ہیں جو ان کے  
 خیر خواہوں کے لئے ہیں۔

استعمال کے لئے یہ سیرک کو لینے  
 کرنے اور اسے فونڈ کی بنیاد پر اس کے خیر خواہوں  
 خیر خواہوں کے لئے اس کے لئے ہے جو ان کے  
 خیر خواہوں کے لئے ہے جو ان کے خیر خواہوں  
 کے لئے ہے جو ان کے خیر خواہوں کے لئے ہے جو ان کے  
 خیر خواہوں کے لئے ہے جو ان کے خیر خواہوں کے لئے ہے جو ان کے

Attested  
 H  
 [Signature]

۱۵  
 ۱۳۵۵  
 ۱۳۵۵

۱۳۵۵-۴۳۹۹۱۷۲

جہاں شیل سہ ماہی کے لئے ۱۱۱ مندرجہ ذیل اور دیگر خیر خواہوں  
 کے لئے دارپنی سہ ماہی کے لئے اور دیگر خیر خواہوں کے لئے

[Signature]

کورٹ فیس

## وکالت نامہ

Before the Honorable Senior Tribunal 15, P.K. Peshawar

عنوان: Jabbar Khail نام Di on 30/08/2015

منجانب: Appellant

Appeal

نوعیت مقدمہ:

ARBOON ARAD

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کل کاروائی متعلقہ آن مقام

Hamayun Khan Advocate High Court ATD

کو وکیل مقرر کر کے اقرار کرتا ہوں کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا نیز وکیل صاحب موصوف کو کرنے راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ برحلف و دینے اقبال دعویٰ اور بصورت دیگر ڈگری کرانے اجراء وصولی چیک روپیہ و عرضی دعویٰ کی تصدیق اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کی کل یا کسی جزوی کاروائی کے لئے کسی اور وکیل یا مختار صاحب قانونی کو اپنے ہمراہ اپنی بجائے تقرر کا اختیار بھی ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی اور ویسے ہی اختیارات ہوں گے اور اس کا ساختہ پر داختم مجھ کو منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ جو خرچہ و ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب ہوگا اس کے مستحق وکیل صاحب ہوں گے۔ نیز بقایا رقم وصول کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اگر کوئی پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب موصوف پابند ہوں گے کہ پیروی مقدمہ مذکورہ کریں اور اگر مختار مقرر کردہ میں کوئی جزو بقایا ہو تو وکیل صاحب موصوف مقدمہ کی پیروی کے پابند نہ ہوں گے۔ نیز درخواست بمبادا تجارت نالاش بصیغہ مفلسی کے دائرہ کرنے اور اس کی پیروی کا بھی صاحب موصوف کو اختیار ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ تحریر کر دیا تاکہ سند رہے۔

المرقوم: 23-7-2015

Scripted by

Handwritten signature

ARBOON ARAD

بمقام:

Handwritten signature: Mr. Jabbar Khail

**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER**  
**PAKHTUNKHWA, SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR**

CM No. \_\_\_\_\_/2018  
IN  
Service Appeal No. 842/2015

*Place a file  
21.5.2018*

Jabbar Khail

**VERSUS**

Deputy Inspector General & others.

**SERVICE APPEAL**

**APPLICATION FOR PLACING ON RECORD  
ADDITIONAL DOCUMENTS.**

---

---

Respectfully Sheweth;-

1. That the above titled case is pending disposal before this Honourable Court.
  
2. That in the present service appeal the appellant wants to place on record certain documents which may be allowed to be placed on record and be treated as integral part of the present service appeal which are as under;-
  - i. Copy of statement of allegation.
  - ii. Copy of charge sheet.
  - iii. Copy of inquiry.
  - iv. Copy of final show cause notice.

3. That the above mentioned documents are necessary for just and proper decision of the titled service appeal.

It is, therefore, very humbly prayed from this Honourable Court that in the interest of justice and fair play the said documents be placed on record and be considered as integral part of the main service appeal.

...APPELLANT

Through

Dated: \_\_\_\_\_/2018

**(HAMAYUN KHAN)**  
Advocate High Court, Abbottabad.


5  
I, **Abdul Saboor Khan, District Police Officer**, and Torghar as Competent Authority of the opinion that you Constable **District Police Officer, Torghar** as competent authority, is hereby, charge you Constable Jabbar khail No.111 while posted at Police Post Shagai has rendered himself liable to be proceeded against as you committed the following act/omission within the meaning under the Police Disciplinary Rules 1975.

### STATEMENT OF ALLEGATION

You Constable Jabbar khail No.111 while posted at Police Post Shagai remained on 23<sup>rd</sup> feb-2015, according to information Constable Mr, Jabbar khail posted in PP Shagai use to black mail Mst, Tajoo bibi w/o Bakht Rasool r/o kamil akazai PS Darbani via his mobile phone a serious wrath anger is found the family of said women due to his phone /call , whereas according to the customs of the area threat of the murder of the said person is also found.

You are therefore, required to submit your written defense within 07 days of the receipt of this charge sheet to the enquiry officer for the purpose of scrutinizing the conduct of the said accused Officer with reference to the above allegation DSP/Hqrs is deputed to conduct formal department enquiry against the accused.


The accused and a well conversant representation of the departmental shall in the proceedings on the date, time and place fixed by the enquiry officer.

  
District Police Officer,  
Torghar

No. 660 /PA dated Tor Ghar the 12 /03 2015

Copy of the above is forwarded to:-

1. DSP/Hqrs Enquiry Officer) for initiating proceedings against the defaulter officer under the provision of Police disciplinary rules 1975.
2. Constable Jabbar khail No.111 while posted at Police Post Shagai with the direction to submit his written statement to the Enquiry Officer within 07 days of the receipt of this charge sheet/statement of allegations and also to appear before Enquiry Officer on the date, time and place fixed for purpose of departmental proceedings.

  
District Police Officer,  
Torghar

Attested  
6

Asst. Legal. TG  
09.05.08

6

## CHARGE SHEET

I, Abdul Saboor Khan, District Police Officer, Torghar as competent authority, is hereby, charge you Constable Jabbar khail No.111 while posted at Police Post Shagai as explained in the attached statement of allegation.

By reason of the statement of allegation, you appear to be guilty of misconduct and have rendered yourself liable to all any of the penalty specified under the relevant rules.

You are therefore, directed to submit your written defence within 07-days of the receipt of this charge sheet to the enquiry officer.

Your written defiance, if any should reach the enquiry officer within a specified period, failing shall be presumed that you have no defence to put in and in that case, an ex parte action shall be taken against you.

Intimate whether you desire to be heard in person are otherwise.

A Statement of allegation is enclosed.

~~\_\_\_\_\_~~  
District Police Officer,  
Torghar

*Handwritten:*  
Asst. Insp. Torghar  
09.06.018

الہ آباد سٹیٹ جبری 660/111 مورخہ 12<sup>3</sup>/<sub>15</sub> شمارہ

جناب داد صاحب سے مندرجہ ذیل خط ہونگا!

تمسکاً تاجپاتی سیری فوری رشتہ دار ہے۔ رشتہ داری کی بنا پر  
اڈو اسکاٹ ہمارے گھروالوں سے اس بار رابطہ ہو رہا ہے۔ سیرے پاس  
E-S-Q Mobile چین میں آڈو میٹک ریکارڈنگ ملگنی ہوئی تھی اسی  
وجہ سے ہماری گمشدہ ریکارڈنگ ہوئی تھی۔ سیرے کو بائیل سے اپنے سہ ماہی  
میں ڈاؤن کر کے بلو لوٹو کھیل دیا ہے۔ اس ریکارڈنگ میں بلک  
میلنگ نام کی کوئی چیز ہے۔

عالمی جاہ

میں شادی شدہ ہوں سیرے کے پاس میں نے نہ آر خون کال ہے  
کسی کو بلک میل کیا ہے نہ ہی سیرے کے خلاف کسی نے کوئی رپورٹ دی ہے  
غلاوہ ازیں اس بات میں بھی کوئی مداخلت نہیں ہے نہ سہری جان لو  
خطرہ ہے، ہماری آپس میں رشتہ داری ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے  
تو ثابت ہو جائے کہ میں نے کسی کو بلک میل کیا ہے تو میں ہوسٹ  
کلیئر تیار ہوں یہی سیرے اقرار ہے۔

الہ آباد

کمال چمار خیل روڈ 111 مقیم ہوئی سنگی

12<sup>3</sup>/<sub>15</sub>

Attested

Handwritten signature and date: 09.05.018

**OFFICE OF THE DISTRICT POLICE OFFICER, TORGHAR**

No. 673 /PA dated, Torghar the 25/03 /2015.

**FINAL SHOW CAUSE NOTICE**

The Final Show Cause Notice would dispose off the Departmental Proceedings conducted against Mr, Jabbar khail No.111, while posted at Police Post Shagai remained on 23<sup>rd</sup> feb-2015, according to information Constable Mr, Jabbar khail posted in PP Shagai use to black mail Mst, Tajoo bibi w/o Bakht Rasool r/o kamil akazai PS Darbani via his mobile phone a serious wrath anger is found the family of said women due to his phone /call , whereas according to the customs of the area threat of the murder of the said person is also found.

Departmental enquiry was initiated against you and entrusted to Shoukat Khan DSP/Hqrs who conducted the departmental enquiry and stated that constable found defaulter according to which he suggested Major Punishment against you which may be your dismissal from service, In this light of above mentioned circumstances. Hence final show cause is being served to you. Why your service not be finished as due to your ugly act bring bad stamna on the part of local police and created hate in eye of ~~general~~ public for police department as well. If you have any defence you can produce before the undersigned within 05 days otherwise major punishment would be given awarded you that can be dismissed from your service.

Therefore you are directed to submit any defence if you have in this regard if you failed to produce any defence with in stipulated period you would be dismissed from service as suggested by the E/O.

*[Handwritten signature]*  
Asst. Legal Officer  
09.05.018

*[Handwritten signature]*  
District Police Officer,  
Torghar.



To: The District Police Officer,  
Torghar

To: The Provincial Police Officer  
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

No. \_\_\_\_\_ / Torghar dated 12 / 03 / 2015

1985  
16-02-

Subject: SOURCE REPORT ( DISTRICT TORGHAR).

Memo: Kindly refer your office Memo: No.1744-45/R/(ops) dated 27.02.2015.

It is submitted that enquiry against Constable Jabbar khail No.111 of Regular police District Torghar has been initiated by DSP/Hqrs Shoukat khan. However enquiry is under process. When enquiry will be completed against said constable report will by send to your good office in the light of findings.

*sd*  
District Police Officer  
Torghar

No. \_\_\_\_\_ /PA

Copy of above is submitted to the, Regional Police Office, Hazara Region Abbottabad with reference his office Memo. 1744-45/R dated 26.02.2015 for favor of information please.

*sd*  
District Police Officer  
Torghar

*Cherry Sheet*

*PO*

*12/03/15*

*دستی لکھنا کا جواب لو*

*دیپٹی ایس ایچ*

*09.08.018*

عالی جاہ

مستعمل فاسٹ سٹوکار نوٹس مہری 673 قیامہ تھا۔ 25-3-15  
تو نہ معروض خدمت ہوں کہ تحریراً اس سال فصل رمضان المبارک 2014ء  
میں مہری بذریعہ واپس خون صحتاً تاجو لالی سے ایک مرتبہ بات ہوئی تھی۔  
بعداً حکمی ریکارڈنگ آڈیو کسی طرح بھی لایا گیا تھا۔ وہی مرتبہ کی  
سال تک بعد دفعہ وضع سے مہری 5/6 بار مہری واپس بر رالطہ عراقہ۔  
میں ایسا تحریری بیان اندر سے باہر فصل ایس دوران انکواری مہری تھا۔  
Dsp/HR مہری نوٹس کر رکھتوں۔ حکمی نقل کا یہی صہا میں موجود ہے۔  
عالی جاہ!

مہری اور صہان کے یہ سول سول سول سول سول سول سول سول سول  
کیا تو کسی قسم سے متنازع ہیں اور یہ مہری نے صہا خلاف واپس  
کھینچ کر ہے۔ دوران انکواری صہا مذکورہ انخاص طور سے بیان  
مستعد بنا کر طلب ہے کہ جا چکا ہے مگر مہری انخاص طور سے بیان  
آباد ہیں ہرے جس جس سے یہ بات مہریوں کے طرح بیان  
تعمیر وہ صہا خلاف تو مہریوں کے سطح پر اور یہ مہریوں کا رول لایا ہے  
کرتا تھا جس جس۔ کیونکہ ہم آگے میں رہتے دار جس اور ایک دوپہر  
تے مہری ناچار اور بات صہا عام بات ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے  
میں بالمشافہات صہا کر سکتے ہیں تو خون پر کہی بات ایسی صورت  
ہیں ہو سکتی۔ خاص کر ایسی حالت صہا مہریوں کے مہریوں کے  
ملاف کوئی مہریوں کے کرتا تھا۔

میں علم ہے صہا بذریعہ واپس خون کے رشتہ داران سے باہر ہے  
صہا ہے۔ اگر مہری علم ہے تو میں مہریوں کے کرتا تھا۔  
یہ صہا مہریوں کے کرتا تھا۔ مہریوں کے کرتا تھا۔  
میں ہے۔ صہا کا خواستگاروں کے کرتا تھا۔  
میں ہے۔ صہا کا خواستگاروں کے کرتا تھا۔

26/03/2015  
مہریوں کے کرتا تھا۔

Handwritten signature and notes at the bottom left corner.

دستور  
شماره ۱۳۶۷

فصل اول

①

آنها اثری از وزن کتبیل جبار علی بن  $\frac{111}{Fc}$  مستقیم و در مقابل همان جبار

کتابت	بازبان	کتابت با اعتراضات
4	آورد	فائل آنکوار اثری از پوریا / ③ + اثری از $\frac{111}{Fc}$
2	آورد	عبارت مستقیم $\frac{660}{129.15}$ از آن اثر جبار علی $\frac{111}{Fc}$ + ①
3	آورد	فصلی از $\frac{1744.45}{RLOPS}$ جبار اثری از پوریا $\frac{111}{Fc}$ + ①
5	=	همه موارد در پوریا هم زبان آورد $\frac{111}{Fc}$ + ②
1	=	زبان از آن اثر جبار علی $\frac{111}{Fc}$ ، زبان از آن اثر جبار علی $\frac{111}{Fc}$ + ②
1	=	سبب آن اثری از جبار علی $\frac{111}{Fc}$ + ③
1	=	در ۱۲ روز $\frac{15}{15}$ ①
1	=	در ۱۴ روز $\frac{18}{15}$ ①
①	خطا	وزن

در این  
مورد  
از این  
مورد  
در  
مورد

آنکه اثری از پوریا  
در این قطعات  
است  
OSI. Lead  
09.05.2018

در  
مورد  
از این  
مورد  
در  
مورد

خانم انواری روبر

-x-x-

جانب عالی

مشکو خانہ شہت فخری 660 فورم 12/15<sup>3</sup> مجاہد خانہ ڈسٹرکٹ روبر  
آخر ضلع ٹورنٹر برصغیر ازل کینڈ جبار خیل نمبر 111، ریکورڈوں میں ضلع ٹورنٹر برصغیر انوار  
میر خوجا پوری - سردار انوار کی زین صحت پائے جا رہے ہیں صحت بہت

جانب والد جوالم خدی انگریزی نمبر R-45-1744 فورم 27/15<sup>2</sup> مع سوس روبر میں  
2 وکھات منجانب ضاب الیکٹرکل آڈیٹس جنرل ڈپٹی ڈائریکٹر خواہ سٹارڈ فوکل ٹورنٹر میں  
میر سے کہ 32 فروری سعدیات و صفائی کینڈ جبار خیل نمبر 111  
مستحقہ زمین ترقی جریا، اسے حوائس فون و زلسم سماہ تاجو بی بی - روم کتب رسول  
اگر اسکی بین سماہ ششم روم مگ رسول سکھانہ بمبیل امانی مسدہ صفائی  
کو بیڈ مسدہ / تنڈ کرنا ہے جسکی وہ متزیرہ خوانین و خاوند اور دیگر شہزادان  
میں اس دوران سے سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے جبکہ سعدیاتی رسم روانہ  
مطالعی نذرورہ کینڈ کوجاں سے مارے جانے کا حلوہ بھی پایا جاتا ہے -  
جسکی نہ سوس روبر کوجاں ازل برصغیر انوار خوجے مارے مری - میں کینڈ جبار کوجاں  
طہر اسے روایت مری کینڈ اسانہ فری جان رہا - جو ہمراہ لقا ہے

کینڈ نذرورہ اپنے جان میں فری کسے کہ ماہ رمضان 2014 میں حوائس نمبر  
03479713150 سے اسے حوائس نمبر 03438297844 پر میں کال آئی یہ اس نے اپنی  
بیڈ کی نو سماہ ششم اور اس کب سماہ تاجو بی بی جو کہ حقیقی بیند میں سے بات مری اور مانی روم  
بات مری رچی اور کسم از کسم 10/15 دفعہ ان سے اسکی باتیں مری رچی اسے ان کو بیڈ مسد  
بیند نہ کہ وہ اس میں باعم رضا مری کب مت لگائے رہے - جیہ راز افشان  
مرا نو سماہ ششم ریکورڈوں میں شہدایا ہے جو باتیں وہ کرتے رہے میں وہ گودوں اور  
دیگر لوگوں کو تمہ کھل گئے رہے تیرا اس حوائس فون منکر رہا عورتوں و حاضر  
پایہ اسکا چچا لگان مری اور جبار سعدیاتی مانگی تیرا اسکی کما ششم کا کارروائی اور انتظام کرنے



اس جہ سے جہاں رہا یہ کہ جو لوگوں کو انتہائی منہمک کر کے رکھتا ہے  
 سے انتہائی منہمک کر کے رکھتا ہے۔ کارروائی کرنے میں سب سے پہلے انہوں نے  
 رپورٹ مار ڈالی ہے۔ سب سے پہلے وہ سب سے پہلے کہہ گا تو جان نہیں  
 نقل رپورٹ ہے۔ 12 روز تا 3، 10 اور 14 روز تا 3، 15 اور 18 اور 20  
 خراب رہا۔ جابر جس کے لفظ ہم ماننے۔ اور سب سے پہلے کہہ گا۔ سب سے پہلے  
 تو سب سے پہلے۔ جو کہ عدالت کے سامنے واقعہ ہے اس کے عدالت کو  
 کہہ گا۔ قانون سے بھی واقفیت رکھتا ہے۔ جس کے عدالت کو  
 عدالت کے سامنے اور قانون کا خلاف ورزی کہہ گا۔ اس کا ہدف  
 خیر کیلئے ثابت کرنا ہے۔ جس کے عدالت کو  
 لوگوں سے تو سب سے پہلے کہہ گا۔ جو اس کے عدالت کو  
 غیر آج کے عدالت کے والدین د گھر ناراض کر رہی ہیں۔ اس کے  
 سے جابر جس کے لفظ ہم ماننے کہہ گا۔ اور سب سے پہلے کہہ گا۔

مناب کے مطابق جابر

*JAM*  
 Deputy Superintendent of Police  
 District Police, Dera Ghokhan

NO 193  
 2013

I would have  
 final show  
 that why your cause  
 due to your ugly service be  
 on the part of local police and  
 made in eye of public for  
 an well. 50000 facts what  
 bad stigma  
 created  
 police deptt

2013

81-50-60  
 2013/1/15

حکومت ضابطہ D.P.O ضابطہ گورنر

عنوان: درخواست برائے فراہم جانے والی تفریقات

ضابطہ عالی

کہ سائل کا ایس ایچ اے کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوارٹرز میں زیر تفریق ہے  
ایس ایچ اے کے ساتھ مذکورہ میں مسائل کو عند ضرورت سناوینا اور  
تفریقوں سے کہیں تک صرف 3/18 اور کو فائل مکمل ہونے  
کے بعد سے سماعت ہوتی ہے۔

کہ سائل خود ذیل دستاویزات کی کاپیوں سے تیار  
ہیں جن میں سے تفریق

- 1 Statement of Allegation
- 2 Charge sheet
- 3 Show cause Notice
- 4) Final show cause
- 5) Inquiring Report

si/legal  
office  
DP/174  
10/4/08

ASi/Legal  
 کہ گورنر کے پاس کوئی دستاویز یا فراہم کیے جانے والے تفریقوں سے کہیں تک صرف 3/18 اور کو فائل مکمل ہونے کے بعد سے سماعت ہوتی ہے۔  
 ڈی اے / ایس ایچ اے کے ساتھ ہیڈ کوارٹرز میں مسائل کو عند ضرورت سناوینا اور  
 تفریقوں سے کہیں تک صرف 3/18 اور کو فائل مکمل ہونے کے بعد سے سماعت ہوتی ہے۔  
 ڈی اے / ایس ایچ اے کے ساتھ ہیڈ کوارٹرز میں مسائل کو عند ضرورت سناوینا اور  
 تفریقوں سے کہیں تک صرف 3/18 اور کو فائل مکمل ہونے کے بعد سے سماعت ہوتی ہے۔

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PUKHTUNKHWA PESHAWAR**

Appeal No.842 of 2015

Jabar Khail No.111 EX constable \_\_\_\_\_ Appellant

Versus

Deputy Inspector General of Police, Hazara Region Abbottab and

Others \_\_\_\_\_ (Respondents)

Subject: WRITTEN REPLY ON BEHALF OF RESPONDENTS

- 18/7
1. The appeal has no cause of Actium or hocks stadia.
  2. The appeal has not been based on fact.
  3. The appeal is not maintainable in the present form.
  4. The appeal is bad for non-joinder and miss-joinder of necessary parties.
  5. The appellant is estopped by his own conduct to file the appeal.
  6. The appeal is barred by law and limitation.
  7. The appellant has not come to the Honorable Tribunal with clean hands.

Respectfully :-

1. in correct the appellant was appointed as constable 06/07/2011
2. Correct he qualified 09<sup>th</sup> month training at Police training collage Hangu
3. Un Correct while he was posted in Police station Derbani complaint has been received from Worthy PPO. Application was issued charge sheet along with statement of allegation which he replied and proper enquiry was conducted which fulfilled all the coddle facilities and provided all opportunities to the applicant to depend himself. He proceed guilty of the allegations. he was issue at Final Show Cause



Notice which was replied by applicant ( copy of charge sheets allegations enquiry report, Final Show Cause Notice and replies are as A,B,C,D,E,F )

4. As para 03
5. As para 03
6. As para 03
7. As para 03 however the reply was not satisfied factory.
8. in correct proper enquiry has been conducted.
9. Petain to record
10. correct to the extent issuance of notice the rest of the para is denied. All coddle formalities fulfilled.


**Grounds:**


- A. In correct the impugned orders are just legal and were issued in accordance with law after observing all the legal and codal formalities. Regular enquiry was conducted and appellant. was found guilty of charges.
- B. Incorrect the statement of mst. Taju bibi is not recorded due to tradition of areas being( parda nasheen) lady. However sufficient evidence available against the appellant.
- C. Incorrect as per para 03
- D. Incorrect as per para above
- E. Incorrect order is passed after complete scrutiny of the case.
- F. Incorrect the proper departmental enquiry was conducted against him and full opportunities was provided the appellant for personal hearing.


- G. Incorrect the proper enquiry was conducted and all codal formalities had been fulfilled.
- H. Incorrect
- I. No comments
- J. No comments.

Prayers:

Keeping in the view of circumstances mentioned above it is humbly prayed that the appeal in hand may kindly be dismissed with cost.

  
Deputy Inspector General of Police,  
Hazara Region, Abbottabad.  
(Respondent No. 01)

  
District police officer  
Torghar  
(Respondent No. 02)



بعدالت سروس ٹریبونل جسٹس ڈیپارٹمنٹ اسلام آباد

اپیل نمبر 842 / 15

عنوان: جبار فیصل  
نام: PK لاہور  
تاریخ پیشی: ایف کورٹ ایف آباد

ضابطہ عالی

گزارش رقم جوالم آفدہ فیصلہ 560-61 SR. 9D. AFD  
ایف آباد سے فونو کالی سمراہ درخواست لف

درجہ درخواست استدعا رقم ایف ایف آر آر آر آر  
Replying جوہان کاکم مار فرمان مار

Shumaila  
Illegal  
18-7-2017

Ahmed  
18-9-17

I have received Rs 1500/- cost

Tahar Khalid  
Appellant

AK  
Khalid



**OFFICE OF THE SENIOR GOVERNMENT  
PLEADER ABBOTTABAD**

14069  
8-9-16

NO        Sr.GP/ATD

Dated 02/09/2016

To,

The District Police Officer,  
Torghar.

Subject: Service Appeal Titled "Jabbar Khail VS Police"

Dear Sir,

With reference to the subject noted above and to state that the titled appeal is pending for adjudication in the Service Tribunal Camp court Abbottabad and was fixed for submission of written statement on 19-08-2016 in which your representative appeared and written reply not submitted as he refused to avail the opportunity of payment cost of Rs: 1000 as per pervious order sheet dated 23-06-2016. The said appeal is therefore assigned to D.B for final hearing on 13-02-2017; hence information is forwarded for further proceeding.

Senior Government Pleader  
Abbottabad

NO 560-61 Sr.GP/ATD

Copy Forwarded:

- ✓ 1. The DIG Hazara Range Abbottabad for information please.
- 2. Deputy Solicitor Law, Parliamentary Affairs and Human Rights Department Khyber Pakhtunkhwa Peshawar for information please.

NO: 20685/SC

dt: 8-9-16

D/O Torghar

Senior Government Pleader  
Abbottabad

Seen

D/O Torghar

SI Legal

for inspection



11/9/16

J. A. Torghar

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

No 1097 /ST

Dated 29 /05/2018


To

The District Police Officer,  
Government of Khyber Pakhtunkhwa,  
Torghar.

Subject: **ORDER/JUDGEMENT IN APPEAL NO. 842/2015, MR.JABBAR KHAIL .**

I am directed to forward herewith a certified copy of Judgment/Order dated 21/05/2018 passed by this Tribunal on the above subject for strict compliance.

**Encl: As above**

  
**REGISTRAR  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL  
PESHAWAR.**

*ok*